

## سوال

اللهم صلى صلاة كاملة و سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذى ( بعض اسی طرح بولتے ہیں ) تنحل به العقد و تنفرج به الكرب و تنقضى به الحوائج، و تنال به الرغائب و حسن الخواتيم و يستسقى الغمام بوجهه الكريم و على آله و صحبه فى كل لمحّة و نفس "

مندرجہ بالا کلمات کو ہند و پاک میں درود ناریہ کہا جاتا ہے، اور جب کسی گھر میں کوئی حادثہ اور مصیبت ہو تو یہ درود ( 4444 ) مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ان الفاظ کے معانی کیا ہیں ؟  
لوگ کہتے ہیں کہ اگر کلمات شرك پر مشتمل نہ ہوں تو اس کو پڑھنے میں کوئی مانع نہیں، کیونکہ یہ نقصانده نہیں اور یہ ذکر کی ایک قسم میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ انہیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں، اور ہم ایک اضافی دعا کرتے تا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور وہ ہم سے کچھ مصائب اور تنگیاں ختم کر دے۔  
میلاذ میں پڑھنے کا حکم کیا ہے، اور کیا مدرسہ کے طلباء یا امام مسجد کا باری کے ساتھ کچھ مدت بعد پڑھنے میں کوئی ضرر و نقصان ہے ؟

## پسندیدہ جواب

الحمد لله.

1 - اس درود میں وارد شدہ کلمات واضح بدعت ہیں، اس کے متعلق اکثر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں:

تنحل به العقد: اس سے گرہیں کھلتی ہیں، یعنی جن امور کا حل کرنا مشکل ہے اس سے حل ہو جاتے ہیں اور جو مصیبت آتی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔

اور اس سے غضب ٹھنڈا ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے۔

" تنفرج به الكرب " یعنی اس سے غم و ہم اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔

" تقضى به الحوائج " یعنی وہ حاصل ہوتا ہے جو وہ چاہے اور جس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔

" تنال به الرغائب و حسن الخواتيم ": یعنی اس کی اخروی اور دنیاوی خواہشات پوری ہوتی ہیں، جس میں خاتمہ بالخیر شامل ہے۔

"يستسقى الغمام بوجهه الكريم": یعنی اس کے ساتھ اللہ سے بارش کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔  
 "والغمام": یعنی بادل۔

2 - بعض لوگوں جو آپ کو کہا ہے کہ یہ درود شرك پر مشتمل نہیں، اور آپ کے لیے یہ پڑھنا جائز ہے... الخ ان کی یہ کلام باطل ہے کیونکہ یہ مزعوم درود کئی ایک شرعی مخالفات پر مشتمل ہے مثلاً:

ا - اس درود کو مصائب و مشکلات کے وقت پڑھنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور یہ اختراع عبادت کے اسباب کی بدعت ایجاد کرنے میں شامل ہوتی ہے۔

ب - اس کو ( 4444 ) کے عدد میں محدود کیا گیا ہے جو عبادت کی کمیت میں بدعت ایجاد کرنا ہے۔

ت - اسے اجتماعی پڑھنا قرار دیا گیا جو کہ عبادت کی کیفیت میں بدعت کی ایجاد ہے۔

ث - اس میں شریعت مخالفت عبارات پائی جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو و شرك پایا جاتا ہے، اور ایسے افعال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں مثلاً قضائے حاجات، اور مشکلات کا حل، اور رغبتوں کا حصول، اور حسن خاتمہ، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے:

کہہ دیں میں تمہارے لیے نہ تو نقصان کا مالک ہوں اور نہ ہی فائدے کا .

ج - اس شخص نے شریعت میں آیا درود اور ذکر ترك کر کے اپنی جانب سے دعاء اور درود اختراع کیا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کی ضرورت کو بیان کرنے میں کوتاہی کا بہتان پایا جاتا ہے، اور اس میں شریعت پر استدراک کا دعویٰ پایا جاتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" جس کسی نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے "

صحیح بخاری حدیث نمبر ( 2550 ) صحیح مسلم حدیث نمبر ( 1718 ) .

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے:

" جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے "

صحیح مسلم حدیث نمبر ( 1718 ) .

ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" یہ حدیث دین اسلام کے عظیم اصولوں میں ایک اصول ہے، اور یہ ظاہری طور پر اعمال کے لیے کسوٹی اور ترازو ہے، جس طرح حدیث " انما الاعمال بالنیات " اعمال کے باطن کے لیے کسوٹی ہے اسی طرح یہ ظاہری کسوٹی ہے، اور پھر جس طرح ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے نہ کیا جائے اس کا عمل کرنے والے کو کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح ہر وہ عمل جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے۔

اور جس نے بھی کوئی ایسا کام دین میں ایجاد کر لیا جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت اور حکم نہیں دیا تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں " اھ

دیکھیں: جامع العلوم و الحکم ( 1 / 180 ) .

اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" یہ حدیث دین اسلام کے قواعد میں سے ایک عظیم قاعدہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں شامل ہوتا ہے؛ کیونکہ یہ بدعات اور ایجادات دین کے رد میں صریح ہے، اور دوسری روایت میں اور الفاظ وارد ہیں: وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی بدعتی شخص جو پہلے سے ایجاد بدعت پر عمل کر رہا ہے جب اس کو یہ پہلی حدیث دلیل دی جائے کہ: " جو کوئی بھی بدعت ایجاد کرے " تو وہ جواب دیتا ہے میں نے تو کچھ بھی نئی چیز ایجاد نہیں کی، تو اس کے لیے یہ دوسری روایت کے الفاظ بطور دلیل پیش کئے جائیں گے:

" جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا " اس حدیث میں صراحت ہے کہ ہر بدعت چاہے وہ اس نے خود ایجاد کی ہو یا پہلے سے ایجاد کردہ پر عمل کر رہا ہو مردود ہے... "

اس حدیث کو یاد و حفظ کرنا بہت ضروری ہے تا کہ منکرات و بدعا تکو ختم اور باطل قرار دینے کے لیے اس سے استدلال کیا جا سکے " اھ

دیکھیں: شرح مسلم نووی ( 12 / 16 ) .

3 - اور میلاد کے متعلق عرض ہے کہ یہ بدعت ہے، اگر یہ خیر و بہلائی ہوتی تو وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے وہ اس کی طرف ہم سے سبقت لے جاتے یعنی صحابہ کرام بھی ایسا کرتے، اور میلاد میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ سیرت نبوی کے متعلق اکثر ضعیف یا پھر موضوع ہوتا

ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلو پایا جاتا ہے، ذیل میں ہم اس کے متعلق علماء کرام کے اقوال پیش کرتے ہیں:

ا - شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو ہر برس میلاد النبی کی رات قرآن ختم کرتا ہے کیا یہ مستحب ہے یا نہیں؟

شیخ الاسلام کا جواب تھا:

عیدین اور ایام تشریق میں کھانے کے لیے لوگوں کا جمع ہونا سنت ہے، اور یہ اسلام کے ان شعار میں شامل ہوتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور فقراء کو رمضان المبارک میں کھانا کھلانے کے لیے مسنون کیا ہے اور یہ اسلام کے طریقوں اور سنن میں سے ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" جس کسی نے بھی کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو اسے بھی روزے دار جتنا اجر و ثواب حاصل ہو گا "

اور فقراء قراء کرام کو وہ کچھ دینا جو ان کے قرآن مجید کی تعلیم میں معاون ہو ہر وقت نیک و صالح عمل ہے، اور جو بھی ان کی اس میں معاونت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ اجر و ثواب میں برابر کا شریک ہے۔

لیکن انہیں شرعی تہواروں کے علاوہ دوسرے تہوار بنا لینا مثلاً جس طرح ربیع الاول کی کچھ راتیں بطور جشن عید میلاد النبی منائی جاتی ہیں، یا رجب کی بعض راتیں یا پھر آٹھ ذوالحجہ کی رات، یا رجب کا پہلا جمعہ یا آٹھ شوال جسے جاہل لوگ نیکوں کی عید کا نام دیتے ہیں، یہ سب ان بدعات میں شامل ہوتی ہیں جسے نہ تو سلف نے مستحب قرار دیا ہے اور نہ ہی خود ایسا کیا۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

دیکھیں: الفتاویٰ الکبریٰ ( 4 / 415 )۔

ب - ابن الحاج کہتے ہیں:

اس دور میں بعض لوگوں نے اس معنی کے مخالف کام کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا ہے وہ یہ کہ جب یہ ماہ مبارک یعنی ربیع الاول کا مہینہ تو وہ دف بجانا اور لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔

تو جو کوئی رونا چاہتا ہے وہ اپنے آپ اور اسلام اور اہل اسلام اور سنت پر عمل کرنے والوں کی غربت و اجنبیت پر

روئے۔

افسوس اگر وہ ترانے اور نظمیں بناتے مگر ایسا نہیں بلکہ ان میں بعض کا گمان ہے کہ وہ ادب و احترام کر رہا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت سے میلاد شروع کرتا اور وہ اسے دیکھتے ہیں جو ناچ گانے میں سب سے ماہر ہو، اس میں جو خرابیاں پائی جاتی وہ کئی وجوہات کی بنا پر ہیں:

قاری تلاوت کرنے میں شرعاً مذموم طریقہ اختیار کرتے ہوئے گانے کی طرح پڑھتا ہے اس کا بیان ہو چکا ہے۔

دوم:

اس میں کتاب اللہ کا قلت ادب اور قلت احترام پایا جاتا ہے۔

سوم:

وہ قرآن مجید کی قرأت کا کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں اور اپنے نفس کی خواہش کی تسکین کرتے ہوئے لہو لعب اور ڈھول باجے بجاتے ہیں جس طرح ایک گانے والا کرتا ہے۔

چہارم:

وہ کچھ ظاہر کرتے ہیں جو ان کے باطن میں نہیں ہوتا اور یہ بعینہ نفاق کی صفت ہے کہ آدمی کے اندر کچھ ہو اور وہ ظاہر کچھ اور کرے، لیکن جس میں شریعت نے استثناء کیا ہے وہ نہیں وہ اس طرح کہ قرأت کی ابتدا تو کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد اور خیالات گانے بجانے والوں سے معلق ہوتے ہیں۔

پنجم:

ان میں سے بعض لہو و لعب کے سبب کی قوت کے باعث بہت ہی کم پڑھتے ہیں، اس کا بیان اوپر ہو چکا ہے۔

ششم:

بعض سامعین کا مشغلہ ہوتا ہے کہ جب قاری قرأت لمبی کرے تو وہ شور و غلغلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خاموش ہی اس وقت ہوتے جب وہ ان کی خواہش کے مطابق لہو و لعب میں مشغول نہ ہو جائے، اور یہ اہل ایمان و اہل خشیت کے وصف کا مقتضی نہیں جو اللہ نے بیان کیا ہے، کیونکہ اہل ایمان تو اپنے مولا و آقا پروردگا کا کلام سننے کو پسند کرتے ہیں۔

اللہ کا فرمان ہے:

اور جب وہ اسے سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اس کے باعث کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اور ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے .

یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام سننے والوں کی صفات بیان کی ہیں.

ان میلادیوں میں سے بعض اس کی ضد اور مخالف کام کرتے ہیں جب وہ اپنے رب کی کلام سنتے تو وہ رقص و سرور کرنے لگتے ہیں اور ناچتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انہیں گناہ کرتے ہوئے شرم ہی نہیں آتی اور شیطانی عمل کر کے رب العالمین سے اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں.

اور وہ اس میں گمان کرتے ہیں کہ وہ عبادت و خیر و بھلائی کے کام میں مشغول ہیں، کاش اگر ایسا کام بے وقوف اور کم تر قسم کے لوگ کرتے تو کچھ نہ تھا، لیکن یہ و بلاء اتنی عام ہوئی ہے کہ علم کی طرف منسوب افراد کو بھی آپ اس میں کودتے دیکھیں گے، اور اسی طرح وہ افراد بھی جنہیں پیر اور شیخ کا لقب دیا جاتا ہے اور وہ مربی قسم کے افراد کہلاتے ہیں جو اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہیں وہ بھی اس میں ہاتھ دھونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں.

پھر تعجب تو یہ ہے کہ ان پر شیطانی ہتھکنڈے اور چالیں کیسے مخفی رہی ہیں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ شرابی جب پہلی مرتبہ شراب نوشی کرتا ہے تو وہ گھنٹہ گھنٹہ سر ہلاتا اور اول فول بکتا رہتا ہے، اور جب شراب اس پر قوی ہو جاتی ہے تو اس کی شرم و حیاء اور وقار بھی جاتا رہتا ہے اور سب کے سامنے ہی ننگا ٹک ہو جاتا ہے.

اللہ ہم اور آپ پر رحم فرمائے اس گانے والے کو دیکھیں جب وہ گاتا ہے تو بیبت و وقار اور اچھی ہئیت والا اور اہل علم و فن والا شخص بھی اس کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، اور جب اسکے ساتھ ساز بجتا ہے تو یہ شخص بھی اپنا سر ہلانے لگتا ہے جس طرح سب شرابی مل کر کرتے ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے.

پھر جب وہ ساز و گانے میں مگن ہو تو اس کی حیاء و وقار بھی جاتا رہتا ہے جیسا شراب نوشیوں کے متعلق بیان ہوا ہے وہ سب کھڑے ہو کر رقص و سرور میں مشغول ہو جاتے ہیں اور آوازیں کستے اور لہکتے اور روتے رولاتے اور خشوع اختیار کرتے کبھی اندر جاتے اور کبھی باہر نکلتے اور ہاتھ پھیلاتے اور سر اٹھاتے ہیں کہ آسمان سے مدد آگئی، اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو اپنے کچھ کپڑے بھی بھاڑ لیتا ہے اور اپنی داڑھی کے ساتھ کھیلتا اور نوجتا ہے.

یہ واضح اور ظاہر منکر و برائی ہے؛ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے، اور بلاشک و شبہ کپڑے پھاڑنا اسی میں شامل ہوتا ہے.

دوم:

ظاہر میں وہ عقلمندوں کی حد سے خارج ہے کیونکہ اس سے وہ کچھ صادر ہو رہا ہے جو غالب طور پر مجنون اور پاگل قسم کے افراد سے صادر ہوتا ہے۔

دیکھیں: المدخل ( 5 / 2 - 7 )۔

ج - مستقل کمیٹی کے علماء کہتے ہیں:

میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا جائز نہیں کیونکہ یہ نئی ایجاد کردہ اور بدعت ہے، نہ تو اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا اور نہ ہی ان کے خلفاء راشدین نے اور نہ ہی ان کے علاوہ پہلی تین صدیوں کے علماء کرام نے اور یہ تین دور ہی افضل ترین دور ہیں۔

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء ( 2 / 3 )۔

د - شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے درج ذیل سوال کیا گیا:

کیا مسلمانوں کے لیے مسجد میں بارہ ربیع الاول کی رات میلاد النبی کی مناسبت سے عید کی طرح دن کو چھٹی کیے بغیر سیرت نبوی کی یاد دہانی کے لیے جشن منانا جائز ہے؟

ہمارا اس میں اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے اور کچھ اسے بدعت غیر حسنہ قرار دیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟

شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا:

" بارہ ربیع الاول کی رات یا کسی اور وقت میلاد النبی کا جشن منانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں؛ کیونکہ میلاد کا جشن منانا دین میں نئی ایجاد کردہ بدعت ہے؛ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی میلاد نہیں منائی تھی حالانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے مبلغ اور اللہ سے شریعت کے قوانین لانے والے تھے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منانے کا حکم ہی دیا۔

اور آپ کے بعد خلفاء راشدین نے بھی کبھی میلاد نہیں منایا اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے، اور ان کے بعد تابعین عظام نے بھی قرون مفضلہ میں میلاد نہیں منائی، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بدعت ہے۔

اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" جس کسی نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے "

اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

اور مسلم کی روایت میں ہے جسے امام بخاری نے معلقاً بالجزم روایت کیا ہے:

" جس کسے نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے "

میلاد کا جشن منانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ بعد کے ادوار میں لوگوں نے دین میں ایجاد کیا جو کہ مردود ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے:

" اما بعد: یقیناً سب سے بہتر بات کلام اللہ ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور برے ترین امور اس دین کے نئے ایجاد کردہ امور ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے "

اسے مسلم اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

اور مسلم کی روایت میں ہے:

" ہر گمراہی آگ میں ہے "

میلاد کا جشن منانے کی بجائے یہی کافی ہے کہ مساجد اور مدارس وغیرہ میں سیرت طیبہ پڑھائی جائے، اور دور جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، اس میں بغیر کسی ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اور وفات بھی آجائیگی، اور اس کے لیے کوئی جشن منانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں کیا اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل ملتی ہے...

اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور سنت نبویہ پر کفائت کرنے کی توفیق اور بدعات سے بچائے "

دیکھیں: فتاویٰ الشیخ ابن باز ( 4 / 289 ) .

واللہ اعلم .